

3 جنوری 2019

## نیو اینرز لیوی کے موقع پر میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے اراکین کے ساتھ ملاقات کریں

برامپٹن، آن – برامپٹن کے رہائشی باضابطہ طور پر نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے اراکین اس قدیم روایت، نیو اینرز ایوو لیوی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔

تمام رہائشیوں کو بروز ہفتہ، مورخہ 12 جنوری 2019 کو صبح 11:30 سے دن 3 بجے تک میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے اراکین کے ساتھ ایک دوپہر گزارنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

یہ ایک ایسا موقع ہے، جسے رہائشی چھوڑنا نہیں چاہیں گے، جس میں گیج پارک میں مفت اسکیٹنگ، میئر اور کونسلرز کے ساتھ ملنے جلنے کا ایک موقع اور مزیدار ٹریٹس شامل ہیں۔

رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکیٹس اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

**صبح 11:30 تا دن 12:30**

ہلکی پھلکی ریفریشمنٹس کے ساتھ باقاعدہ استقبالیہ  
سٹی ہال آٹریم، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ اور ویسٹ ٹاور کنزرویٹری، 41 جارج اسٹریٹ

**دن 12 تا 3**

گیج پارک میں ڈی جے ٹیم کے ساتھ اسکیٹنگ

تقریب کے دوران سٹی ہال میں مفت پارکنگ دستیاب ہو گی۔

مزید معلومات کے لیے، [یہاں کلک کریں](#)۔

### اقتباس

"کونسل کے اراکین اور گیج پارک اور سٹی ہال میں برامپٹن کے رہائشیوں کے ساتھ نیو اینرز کی خوشیاں منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ اس دوپہر کو اسکیٹنگ کرنے، بات چیت کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہو جائیں – ہم شرکت کرنے والے تمام لوگوں سے ملنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426